



### کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے برامپٹن میں سماجی اجتماعات کی حد کو کم کر دیا گیا ہے

سٹی نے رہائشیوں کی صحت و سلامتی کے تحفظ کے لیے کووڈ-19 کے ضمنی قوانین کو جنوری-2021 تک بڑھا دیا

برامپٹن، آن (18 ستمبر 2020) – گزشتہ روز، حکومت اونٹاریو نے اعلان کیا کہ آج سے کورونا وائرس (کووڈ-19) کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے برامپٹن اور پورے پیل ریجن میں غیر نگرانی شدہ سماجی اجتماعات اور منظم عوامی تقریبات کو اندرونی جگہوں پر دس لوگوں اور بیرونی جگہوں پر 25 افراد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اس میں نجی رہائشیوں، صحن، پارکس اور دیگر تفریحی جگہوں پر تقریبات، پارٹیاں، عشائے، اجتماعات، باربی کیو یا شادیوں کے استقبالیے شامل ہیں۔

ان نئی حدود کا اطلاق عملے والے کاروباروں اور سہولت گاہوں میں منعقد ہونے والی تقریبات اور اجتماعات پر نہیں ہو گا، مثلاً بارز، ریستورینٹس، سنیما، کنونشن سنٹرز یا بینکونٹ ہالز، جمز اور تفریحی کھیلوں یا مظاہرے والے فنون کی تقریبات۔ ان کاروباروں اور سہولت گاہوں کے لیے موجودہ قواعد، بشمول عوامی صحت اور جائے کار پر حفاظت کے اقدامات، کا نفاذ برقرار رہے گا۔ مزید معلومات کے لیے، حکومت اونٹاریو کی [میڈیا ریلیز](#) دیکھیں۔

رہائشیوں کی صحت و سلامتی کے تحفظ اور حکومت اونٹاریو اور ریجن آف پیل کی کورونا وائرس کو روکنے کی کوششوں میں معاونت فراہم کرنے کے لیے، برامپٹن سٹی کونسل نے برامپٹن کووڈ-19 ایمرجنسی مژرز ہائی لاء اور برامپٹن کووڈ-19 مینڈیٹری فیس کورنگز ہائی لاء کی معیاد کو 31 جنوری 2021 تک بڑھا دیا ہے۔

#### برامپٹن کووڈ-19 ایمرجنسی مژرز ہائی لاء

برامپٹن کووڈ-19 ایمرجنسی مژرز ہائی لاء کے تحت آپس میں مطلوبہ جسمانی فاصلہ نہ رکھنے والے افراد پر ہر بار خلاف ورزی کی صورت میں کم از کم \$500 اور زیادہ سے زیادہ \$100,000 تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔

اس ضمنی قانون میں درج ذیل میونسپل قواعد بیان کرتے ہیں کہ:

- ہر شخص کو عوامی جگہوں پر ہر دوسرے شخص سے کم از کم 2.0 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے، ماسوائے وہ افراد کو ایک ہی جگہ پر اکٹھے رہتے ہوں۔
- کوئی بھی کاروبار کسی بھی شخص کو دوسرے ہر شخص سے کم از کم 2.0 میٹر کے فاصلے کے بغیر بیٹھنے یا اندر یا باہر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، ماسوائے وہ افراد جو ایک ہی جگہ پر اکٹھے رہتے ہیں یا کاروبار کے ملازمین۔

#### مینڈیٹری فیس کورنگز ہائی لاء

مینڈیٹری فیس کورنگز ہائی لاء کے تحت، کورونا وائرس (کووڈ-19) کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نان میڈیکل ماسک یا چہرے ڈھانپنے کی چیزیں برامپٹن میں تمام اندرونی جگہوں پر لازمی ہیں یہ عارضی ضمنی قانون سرکاری اداروں اور کاروباروں سے تقاضہ کرتا ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ ان کے زیر قابو اندرونی عوامی جگہوں پر ماسک پہنیں جائیں یا چہرے کو ڈھانپا جائے۔

یہ ضمنی قانون مخصوص افراد کو استثناء فراہم کرتا ہے، بشمول وہ لوگ، جو طبی وجوہات کی بناء پر ماسک یا چہرے کو ڈھانپنے کی چیز نہیں پہن سکتے؛ دو سال کی عمر سے کم بچے؛ ہنگامی آرڈرز کے مطابق اتھلیٹک سرگرمی میں حصہ لینے والے افراد اور اجازت شدہ کاروباروں پر کھانے یا پینے والے لوگ (جہاں صوبے نے کھانے پینے کی اندرونی جگہوں کی اجازت دی ہے)۔ مکمل فہرست کے لیے [brampton.ca/masks](http://brampton.ca/masks) ملاحظہ فرمائیں۔



رہائشی اور کاروبار 311 پر کال کر کے عدم پابندی کی اطلاع دے سکتے ہیں۔

کووڈ-19 کے بارے میں سٹی آف برامپٹن کے اقدامات کے حوالے سے تازہ ترین معلومات کے لیے [brampton.ca/COVID19](https://brampton.ca/COVID19) ملاحظہ کریں۔

### اقتباسات

"سٹی آف برامپٹن اپنی کمیونٹی کے تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کے ضروری اقدامات اٹھانا جاری رکھے گا۔ میں تمام رہائشیوں پر زور دیتا ہوں کہ براہ کرم جسمانی فاصلہ بندی کے اصول اپنائیں، سماجی اجتماعات کی نئی حد کی پابندی کریں اور برامپٹن کووڈ-19 ایمرجنسی مژرز بائی لاء اور مینڈیٹری فیس کورنگز بائی لاء پر عمل کریں۔ ہم سب کو برامپٹن کو محفوظ رکھنے اور اپنی کمیونٹی میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہو گا۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ایک کمیونٹی کے طور پر، ہم برامپٹن میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے ضروری کام کریں۔ میں رہائشیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم ہمارے توسیع شدہ برامپٹن کووڈ-19 ایمرجنسی مژرز بائی لاء اور مینڈیٹری فیس کورنگز بائی لاء پر عمل کریں اور سماجی اجتماعات کی تخفیف شدہ حدود کی پابندی کریں، تاکہ ایک ساتھ مل کر، ہم بحالی اور اپنی کمیونٹی کی صحت و سلامتی کے تحفظ کے اپنے راستے پر آگے بڑھ سکیں۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر وارڈز 3 اور 4؛ لیڈ، ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ، سٹی آف برامپٹن

"سٹی اپنی کمیونٹی میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو سنجیدگی سے لینا جاری ہے۔ اپنے برامپٹن کووڈ-19 ایمرجنسی مژرز بائی لاء اور مینڈیٹری فیس کورنگز بائی لاء کی توسیع عملے کو کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ان قوانین کے نفاذ کے ذریعے جسمانی فاصلہ بندی اور سماجی اجتماعات کی حدود اور پوری کمیونٹی میں نان میڈیکل ماسکس کے استعمال کو فروغ دینے کے قابل بنائے گا۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)